

سوال

رمضان المبارک کی خصوصیات کیا ہیں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

ماہ رمضان عربی بارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور دین اسلام میں یہ مہینہ عظیم الشان قدر و منزلت رکھتا اور باقی سب مہینوں سے اسے بہت سارے خصائص حاصل ہیں جن میں سے چند ایک خصوصیات ذیل میں بیان کی جاتی ہیں:

1 - اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزے رکھنا دین اسلام کا چوتھا رکن قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے اور اس میں راہ ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، اور فرقان ہے، اس لیے جو کوئی بھی ماہ رمضان کو پا لے تو وہ اس ماہ کے روزے رکھے البقرة (185) .

اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" اسلام کی بنیاد پانچ اشیاء پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز کی پابندی کرنا، اور زکاۃ ادا کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا "

صحیح بخاری حدیث نمبر (8) صحیح مسلم حدیث نمبر (16) .

2 - اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں قرآن مجید نازل کیا ہے، جیسا کہ مندرجہ بالا آیت میں فرمان باری تعالیٰ ہے:

رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے جو کہ لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی نشانیاں ہیں اور فرقان ہے البقرة (185) .

اور دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہیں:

یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو لیلة القدر میں نازل کیا ہے .

3 - اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں لیلة القدر رکھی ہے جو کہ ایک ہزار مہینوں سے افضل و بہتر ہے، جیسا کہ درج ذیل فرمان باری تعالیٰ میں ہے:

یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو لیلة القدر میں نازل کیا ہے، تجھے کیا علم کہ لیلة القدر کیا ہے، لیلة القدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس میں ہر کام کے سرانجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور جبریل اترتے ہیں، یہ رات سراسر سلامتی والی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے القدر (1- 5) .

اور ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے بیشک ہم ڈرانے والے ہیں الدخان (3) .

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو لیلة القدر کے ساتھ فضیلت دی ہے، اور لیلة القدر کی قدر و منزلت بیان کرنے کے لیے سورة القدر نازل ہوئی، اور بہت ساری احادیث بھی اس سلسلہ میں وارد ہیں جن میں سے چند ایک ذیل میں بیان کی جاتی ہیں:

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" تمہارے پاس وہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروزے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے، اللہ کے لیے اس میں ایک رات ہے جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو بھی اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا تو وہ محروم ہے "

سنن نسائی حدیث نمبر (2106) مسند احمد حدیث نمبر (8769) علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب حدیث نمبر (999) میں اسے صحیح قرار دیا ہے .

ایک دوسری روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" جس نے بھی لیلة القدر کا ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں "

صحیح بخاری حدیث نمبر (1910) صحیح مسلم حدیث نمبر (760) .

4 - اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے روزے رکھنا اور قیام کرنے کو گناہوں کی بخشش کا سبب بنایا ہے؛ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی درج ذیل حدیث میں بیان ہوا ہے:

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" جس نے بھی رمضان المبارک میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں "

صحیح بخاری حدیث نمبر (2014) صحیح مسلم حدیث نمبر (760) .

اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" جس نے بھی رمضان المبارک کا ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں "

صحیح بخاری حدیث نمبر (2008) صحیح مسلم حدیث نمبر (174) .

مسلمانوں کا اجماع ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرنا سنت ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ قیام رمضان سے مراد نماز تراویح ہے یعنی نماز تراویح سے قیام اللیل کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔

5 - اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں بند کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے ثابت ہے:

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" جب رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے "

صحیح بخاری حدیث نمبر (1898) صحیح مسلم حدیث نمبر (1079) .

6 - رمضان المبارک کی ہر رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں:

ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" ہر افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ آزاد ہوتے ہیں "

اسے امام احمد نے مسند احمد (5 / 256) میں روایت کیا ہے، امام منذری رحمہ اللہ نے اس کی سند کو لایا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب حدیث نمبر (987) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

اور بزار نے کشف (962) میں ابو سعید سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" ہر مسلمان کے لیے ہر دن اور رات میں دعا قبول ہوتی ہے "

7 - جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو رمضان المبارک کے روزے رکھنا پچھلے سب گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" پانچوں نمازیں اور جمعہ سے لیکر جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان کے مابین گناہوں کا کفارہ ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے "

صحیح مسلم حدیث نمبر (233)۔

8 - رمضان المبارک کے روزے رکھنا دس مہینوں کے برابر ہیں جیسا کہ صحیح مسلم کی درج ذیل حدیث دلالت کرتی ہے:

ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو گویا کہ اس نے سارا سال ہی روزے رکھے "

صحیح مسلم حدیث نمبر (1164)۔

اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو ایک ماہ دس ماہ کے برابر ہے، اور عید الفطر کے بعد چھ روزے

رکھے تو یہ پورے سال کے روزے ہونگے "

مسند احمد حدیث نمبر (21906) .

9 - جو شخص رمضان المبارک میں رات کو امام کے ساتھ قیام مکمل کرے تو اسے ساری رات کے قیام کا ثواب حاصل ہوتا ہے:

ابو زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" جس نے بھی امام کے ساتھ قیام کیا حتیٰ کہ امام چلا جائے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے "

سنن ابو داؤد حدیث نمبر (1370) علامہ البانی رحمہ اللہ نے صلاة التراويح صفحہ (15) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

10 - اس ماہ مبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے:

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت کو فرمایا:

" تجھے ہمارے ساتھ حج کرنے سے کس چیز سے روکا ؟

اس عورت نے عرض کیا: ہمارے پاس دو ہی اونٹ تھے ایک پر اس کے شوہر نے حج کیا اور دوسرا ہمارے لیے چھوڑ گیا جس پر ہم پانی لاتے تھے۔

چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ہے "

صحیح بخاری حدیث نمبر (1782) صحیح مسلم حدیث نمبر (1256) .

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:

" میرے ساتھ حج کا ثواب ہے "

ناضح کا معنی وہ اونٹ جس پر پانی لایا جائے۔

11 - ماہ رمضان میں اعتکاف کرنا مسنون ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر رمضان میں

اعتکاف کیا تھا جیسا کہ درج ذیل حدیث میں وارد ہے:

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے پر رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور پھر ان کی بیویوں نے بھی آپ کے بعد اعتکاف کیا "

صحیح بخاری حدیث نمبر (1922) صحیح مسلم حدیث نمبر (1172) .

12 - رمضان المبارک میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت اور دور کرنا مستحب ہے، دور اس طرح ہوگا کہ قرآن مجید کسی دوسرے شخص کو سنایا جائے، یا پھر کسی دوسرے کا سنا جائے، اس کے مستحب ہونے کی دلیل درج ذیل حدیث ہے:

" جبریل علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے "

صحیح بخاری حدیث نمبر (6) صحیح مسلم حدیث نمبر (2308) .

قرآن مجید کی تلاوت کرنا مطلقاً مستحب ہے، لیکن رمضان المبارک میں زیادہ تاکید ہے۔

13 - رمضان المبارک میں کسی دوسرے روزے دار کا روزہ افطار کرانا مستحب ہے:

زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" جس نے بھی روزے دار کا روزہ افطار کرایا اسے روزے دار جتنا ثواب حاصل ہوگا، لیکن روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی "

سنن ترمذی حدیث نمبر (807) سنن ابن ماجہ حدیث نمبر (1746) علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی حدیث

نمبر (647) میں اسے صحیح قرار دیا ہے، آپ سوال نمبر (12598) کے جواب کا مطالعہ ضرور کریں۔

واللہ اعلم .